

99381 - اگر مال دوران سال نصابِ زکاة سے کم ہو جائے تو؟

سوال

میرے پاس دس ماہ سے 10 ہزار ریال تھے، اب میں نے ان پیسوں کی کچھ چیزیں گھر کے لیے خرید لی ہیں، اور میرے پاس ان میں سے صرف 500 ریال باقی ہیں، پھر جب مجھے تنخواہ ملی تو دوبارہ پھر 10000 ریال ہو گئے، تو کیا مجھ پر زکاة ادا کرنا فرض ہو گا؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

نقدی پر زکاة واجب ہونے کے لیے جو شرائط لاگو ہوتی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ نصابِ زکاة کے برابر رقم ایک سال سے ملکیت میں ہو؛ اس کی دلیل سنن ابن ماجہ: (1792) میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، آپ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا: (سال گزرنے سے پہلے تک مال پر کوئی زکاة نہیں ہے۔) اس حدیث کو البانی نے "إرواء الغلیل" (787) میں صحیح قرار دیا ہے۔

اس بنا پر: اگر دورانِ سال مال کی مقدار نصابِ زکاة سے کم ہو جاتی ہے چاہے چیز کے فروخت ہونے کی وجہ سے، یا جانوروں میں سے کسی کے مرنے کی وجہ سے، یا اخراجات میں استعمال ہو جانے کی وجہ سے تو اس پر زکاة واجب نہیں ہو گی؛ کیونکہ دورانِ سال مال میں آنے والی کمی کی وجہ سے نصاب پر پورا سال نہیں گزرا، اس لیے اس پر زکاة واجب نہیں ہو گی۔

لیکن اگر کم ہونے کے بعد نصاب دوبارہ پورا ہو جائے تو اسی وقت سے زکاة کا نیا سال شروع ہو جائے گا۔

علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"ہمارا موقف، اسی طرح امام مالک اور امام احمد سمیت جمہور علمائے کرام کا زکاة فرض ہونے کے لیے یہ ہے کہ: جس مال پر زکاة واجب ہوئی ہو اس پر ایک سال کا عرصہ گزرنا شرط ہے۔ اس کے لیے سونے، چاندی، اور جانوروں کی طرح پورا سال نصاب کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر سال کے دوران کچھ لمحات کے لیے بھی نصاب میں کمی ہوئی تو نصاب کا سال ختم ہو گیا، تو اب جب نصاب مکمل ہو گا تو زکاة کا سال شروع سے شمار کیا جائے گا۔" ختم شد

"المجموع" (5/506)

علامہ بیہوتی رحمہ اللہ "کشاف القناع" (2/ 179) میں کہتے ہیں:

"دورانِ سال اگر مال میں نصاب سے کمی ہوئی تو زکاة کا سال ختم ہو جائے گا؛ کیونکہ پورا سال نصاب کے برابر یا نصاب سے زیادہ مال کا ہونا زکاة واجب ہونے کے لیے شرط ہے۔" ختم شد

اس بنا پر: نصاب سے کم ہو جانے والے اس مال میں آپ پر کوئی زکاة نہیں ہے، آپ زکاة کے لیے سال کا شمار دوبارہ پھر اس وقت شروع کریں گے جب تنخواہ ملنے پر آپ کے پاس نصاب کے برابر مال جمع ہو گیا۔

نقدی نوٹوں کی زکاة کا نصاب جاننے کے لیے آپ سوال نمبر: (100570) کا جواب ملاحظہ کریں۔

واللہ اعلم